

< جرمنی میں زندگی کے طور طریقے

## وقت کی پابندی اور میٹنگز

جرمنی میں آپ کہ پہلے چند مہینوں کے دوران آپ کو حکومتی اداروں میں اکثر بلایا جاتا ہے۔ وقت کی قدر - اس لیے بہت خاص عنوان ہے۔ جب آپ کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملنے والے شخص کی عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ پانچ یا دس منٹ لیٹ ہو جائیں گے، تو یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ دوسرے شخص کو فوری طور پر فون پر اطلاع کریں۔ اگر آپ بتائے بغیر دیر سے آتے ہیں تو اس کو بہت غلط یا بد تمیزی کا نشان سمجھا جاتا ہے۔

جاب انٹر ویو کے لیے اگر آپ وقت پر نہیں آتے تو اکثر آپ کو اندر ہی نہیں بلایا جاتا۔ لحاظہ کسی بھی معاملے میں آپ کے سست پن کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ کے کام پر اگر آپکا احلا پن آپ کی ترقی کہ سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور اکثر آپ کا ایسا رویہ، آپ کی بے روزگاری کا باعث بن جاتا ہے۔

### پبلک معاملات کی خاص پابندی

وقت کی قدر نہ صرف محاشی یا سرکاری بلکہ معاشرتی سطح پر ، خاص طور پر مہمان نوازی میں بھی کی جاتی ہے۔ میزبان اس بات میں اپنی عزت سمجھتا ہے جب مہمان وقت پر حاضر ہوتے ہیں۔ معاشرتی معاملات میں اوقات کی پابندی کرنا پابندی کرنے والے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کی گفتگو ابھی ختم نہ ہوئی ہو اور دوسرا شخص جانے کے لیے تیار ہو کیونکہ اسکے اجنڈے میں اگلی میٹنگ بھی شامل ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا واقع پیش آئے تو اسکا مطلب نہ ہی آپ کی بے عزتی ہے اور نہ ہی یہ کہ دوسرا شخص آپ کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے شخص کو بھی آپ کے جیسا مکمل موقع اور عزت دی جاسکے۔



©I-vista, pixelio.de

اس لیے، کسی بھی قسم کے مل ملاپ یا میٹنگز کے لیے لوگ میٹنگز بک کرتے یا کرواتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، جب آپ کسی دوسرے شخص کو میٹنگز کے عنوان سے ملنے سے پہلے آگاہ کردیں۔ اسطرح بغیر وقت ضائع کیے آپ سیدھے ایک دوسرے کے ساتھ مثلے کے بارے میں بات چیت کرسکتے ہیں جو کہ دونوں کے حق میں بہتر تصور کیا جاتا ہے۔